

گھنائین تھسمانی خرابی و ژہر



وہرگیان

لقمان نوری عبدالقہار

نقیسین

د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر

زنجیرا نامی لکین ۵. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر



نقیسین: د. عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر

وہرگیان: لقمان نوری عبدالقہار

پیداچوون: م. شیخان شیخہ میری

دیزاینر ناہرک و بہرگی: سائیت مزگہفت

ہژمارا زنجیرن: (13)

ژ بہرہ میئن: سائیت مزگہفت www.mzgaft.com



پیشہ کی

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه
ومن والاه. أما بعد: بی گومان ئەم بیین د سەردەمەکی دا دژین
جیهان هەمی وهکی تەپەپەیهکی ددەستێ مەدا بچویک بوویە،
ژلایێ پەپەپەندی وگەهشتنا پێزانین و تورپن جفاکی.

ویا دیارە کو پتیریا خەلکی بکارهینەرین قان تورپن جفاکییە ب
هەمی جور و ناڤین و پێقە، و ئەقە ژپوارە و ئەم بیین تیدا و نکولی
لی ناھیتە کرن، و ئەف ئینتەرنیت و تورپن جفاکی وهکی
شیرەکی دوو سەرن، لایەنی خرابیی یی تیدا هەمی، و هەر وەسا
لایەنی باشیی ژمی یی تیدا هەمی، و مروقی ب عاقل و تیگەهشتی
بو ساناهی کرنا کارمی خو، و مفا وەرگرتنا ژ وی دەمی، مژویلی
ئینتەرنیت و تلەفزیونی و موبایلی لایەنی چاکی و باشیی
بکار دئینت، و ب قی چەندی زانین و زانستی ل خو زیدە دکەت.

بەلی مروقی بی پروژە و بی پلان بتنی دەمی خو ب قان تورپن
جفاکی قە دبورینت و چ مفاپەکی ژمی نابینیت چونکی د
بنەکوک دا ئەو ل باشیی ناگەریین، قیجا دی بیتە ئەگەری

خوسارەتیا دونیایی کۆ ژیی وی و ساخله میا وی و مالی وی
 ژدەست بچیت، ول ئاخەرتی ژی روی رەش بیت چونکی مافی
 خودی و مافی دەبیاب و مافی خیزانی و زاروکا نەدایی،
 و بەرپرسیارەتیا خو ب دروستی ئەنجام نەدا، و بقی چەندی چ
 بەیتە سەری وی دقیت ئەو گازندا ولوما بتنی ژ خو بکەت،
 چونکی ئەقە کەدا دەستی تەیه، وەک خودایی مەزن دبیژیت:
 {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.

[الشوری: 30]

و پیغەمبەری مە سلاقیین خودی لسەر بن دبیژیت: "لم تظهر
 الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون
 والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا".⁽¹⁾

ئانکو: نینە فاحیسه و کریتی دناف ملله تەکی دا پەیدا ببیت
 هەتا کۆ ئەو ئاشکرا بکەن، و دی تاعون و نەخۆشییین وەسا
 دناف و اندا پەیدا بن کۆ دناف باب و باپیڕین و اندا نەبن.

(1) [رواه ابن ماجه، وصححه الألبانی].

قېجا ئەف نامیلکا ب مفا یا شیخ (عبدالرزاق بن عبدالمحسن
 عباد البدر) ب ناقی "کہ نالین ئەسمانی خرابی و ژہر"
 یا ہاتیہ وەرگێران ژلای بربرای مہ: لقمان نوری زیباری خودی
 خیرا وی بنقیسیت.

ژخودی دخوازم ل ہەر کیم وکاسیہ کی ببوریت وژمہ قہ بویل
 بکہت، وہەر خودی یہ لسەر قی چہندی خودان شیان.

والحمد لله أولاً و آخراً

شیخان شیخہ میری

12 محرم 1445

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ھندیکە بەرپرسیارەتیە بەرامبەر نفسی نۆی یا مەزنە، و ئەرکێ مە بەرامبەر وان زۆرە، ئەو ئەمانەتن د ستوی مەدا، و ھەر ئێک بەرپرسە ب وان یی ل بن چاقدیرییا وی ل روژا قیامەتی: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحریم: ٦]

پامان: ئەوی ئەوین باوھری ب خودی ئینای ودویکەفتنا پیغەمبەری وی کری، ھوین خو و عیالی خو ب گوھدانا فەرمانا خودی ژ وی ئاگری بیاریزن یی ب مروّف و بەران دئیتە ھلکرن، ھندەک ملیاکەتین ب ھیز و زقر خەلکی وی ئاگری عەزاب ددەن، و ئەو بی ئەمرییا خودی ناکەن، ووی تشتی دکەن یی فەرمان پی ل وان دئیتەکرن.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"⁽²⁾

ژ عبدالله بنی کوری عومہری رازی بوونا خودی لی بیت گوت:
 من گوہ ل پیغہمبہری خودی ﷺ بو دگوت: (ہوین ہہمی
 شقان و ہوین ہہمی بہرپرسن سہر وان کہسا ئہوین بن
 چاقدیرییا و ہدا، پیئشہوا شقان و بہرپرسہ ژ ئہوین بن دەستی
 وی، زہلام شقانہ د مالا خودا و بہرپرسہ ژ بیین بن دەستی وی،
 و ژن شقانہ د مالا زہلامی خودا و بہرپرسہ ژ بیین بن دەستی
 وی، و خزمہتکار شقانی مالی مہزنی خویہ و بہرپرسہ ژ بیین بن
 دەستی وی، و زہلام شقانی مالی بابی خویہ و بہرپرسہ ژ بیین

(2) رواہ البخاری (۳۹۸)، ومسلم (۹۲۸۱)

بن دهستی وی، و هوین هه می شقنان و بهرپرسن ژ بیین بن دهستی هه وهدا)

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته" (3)

رامان: هندیکه خودییه دی پسیارا هه می شقانه کی که ت ب وی یا ئەو پئی بویه بهرپرسیار، ئەری وی پاراستیه یان بهرزه کریه؟ ههتا پرسیارا زهلامی دی هیته کرن ژ ئەهلئ مالا وی.

و عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" (4).

(3) رواه النسائي في (الكبرى) (٤٧١٩) ، وابن حبان في (صحيحه) (٢٩٤٤) ، وحسنه الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع) (٤٧٧١)

(4) رواه البخاري (١٥١٧) ، ومسلم (٢٤١) واللفظ له

رامان: نینہ عہدہک خودایی مہزن بہرپرسیارہیہتہکی بدہتی و
وی پوژا ئەو د مریت ئەو یی خائین بیت ل وی کوما مروقان و
حەقی وان نہ دابیتی ئیلا خودی دی بہحەشتی ل سەر وی
حەرام کەت.

ئەم یی ل سەردەمەکیدا دژین خرابی تیدا یا زور بوی و فیتنە
یین مەزن بوین، و ہندی یین زور بوی ئیک دویف ئیک یا بەری
خۆ سقک دکەت.

و دبیت وی راستیی دیار بکەت یا ئاخفتنا پیغەمبەری ﷺ:
"وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَّتُهَا فِي أَوْلِيَّهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ،
وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرْفَقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ
الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ،
فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ
الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"⁽⁵⁾.

(5) رواه مسلم (٤٤٨١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

رامان: هندیکه ئەف ئومه تا هه وهیه سلامه تیا وی یا کرییه د ده سییکا ویدا، و دویماهییا وی دی توشی به لا و هندهك كارا بیت دی هه وه پێ نه خوش بیت، و دی هندهك فتنه هین ئیک دی یا دی سئك کهت، و دی فتنه هیته باوهردار دی بیژیت ئەفه تیچوونا منه، پاشی ئەو فتنه نامینیت دی ئیکا دی هیته دی بیژیت ئەفه یه ئەفه یه تیچوونا من، قیجا هه ر کهسی بقیته ژ ئاگری رزگار بیت، و بچیته د به هشتی دا، بلا مرنا وی بهیته و ئەو یی باوهردار ب خودی و روژا دوماهیکی.

د قی سهرده میدا پیلانگیرییا کافرا زیده بوو دوژمنیت خودی و دینی وی و دوژمنین بهنده یین وی یین باوهردار، و وان کومه لگه هین موسلمانا یین کرینه ئارمانج وان دقیت سستی بیخه ددینی واندا و گومانی بیخه د باوهریا واندا، و رهوشتی وان ب هه رفینن و رهفتارین وان پویچ بکهن و خرابیی و کاری بی خیر د ناف واندا به لاف بکهن، و وان ژ باوهشا ئیسلامی بینه ده، خودی وان نه گه هینته هیقیان وان.

د به ریډا ئه و نه دشیان بگه هنه هزریت گه نجی و سنیله یان دا کو ژههرا خو دناڅ دا به لآڅ بکه ن و ئیلحاد و کوفر و خرابیا خو پیشکەش بکه ن، به لئ نوکه ههوا یی هزریت وان هه لدگریت ب راستیژی ئه و هه وایی تیچونیی، به لکو باروڅیت ویرانکه رن ل بنه ما و بهایین بلند (مه بده ئو قیه ما) دده ن، و ره وشت و دیانه تی ویران دکه ن ل به نده ی، و ره ه و ریشالیټ بوها بوونی و چاکیی هه لدکیشتیت و بنه ماییټ راستی و یه قینی هه لدکیشتیه ژده رڅه .

دوژمنین ئایینی خودی یین شیا یین ب ریکا که نالین ئاسمانی و به رنامه یین راسته و خو بگه هنه عه قل و هزریت خه لکی و مال و جهین څه هه ویانا خه لکی ژههر و خرابیی خو ناڅدا به لآڅ دکه ن، و کوفر و ئیلحاد و بی شه رمیی به لآڅ دکه ن، و کارین بی بها و کریټ و کیم شه رم ب ریکا دیمه نین دره و و قوتا بخانین خرابیی به لآڅ دکه ن، و هه ژیکرنا عه شق و خرابی و عه ره قی بهر کچ و کوریت موسلمانا شرین دکه ن، به لکو ئه څه جهی داڅیت خاپاندنی و وه ریسئ نیچیرییه دلین لاواز ونه فسین بی ئاگه ه

دکھ نہ نیچیرا خو، قیجا دی بیرو باوہران لی پویچ کہن، و دی
 رہوشتی وان بہرہف خرابیی بہن و دی وان توشی فتنی کہن، و
 ژوی فتنی خراب تر نینہ ئەوا سہر خەلکی دا دگریت د نیقا مال
 و خانیی خوقہ و ئەو فتنہ یا ژہرکری و تژی ناقدان ژہرو
 خرابکاری.

مخابن! و یا ئەقرو دلی تژی خەم دکەت کو ہندەک ژ کور و
 کچیت موسلمانا یین ہین بہرامبەر قان شاشەیین ویرانکەر د
 روینہ خوار بو دەمین دریز و باش گوہداریی بو دکەن و ب
 چاقین خو بہریخودانی بو وان دیمەنا دکەن ئەوین ئەو
 پیشکییش دکەن، و ب دل و لەشی خو یی بہرہف وی دچیت یا
 ئەو دەنہ بینەری خو، و ب بورینا روژا دی ہزرین پیس ہییدی
 ہییدی ریکا خو ل دەف وی بینن و دی د بنەمایین ویرانکەر دا
 چیتہ خوار ئەوین عەقلی و ہزری سەردا دہن، و ئەوا کافران
 دقیت دی ب جہ ہییت،

خودایی مه زن دبیزیت: {فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. وَدُوا لَوْ تَدَّهِنُ

فَيُدْهِنُونَ} [القلم: 8-9]

رامان: قیجا تو -ئە ی موحه مەد- وەکی خو بمینه و گوهدارییا
دره و پیکه ران نه که، وان خوزی راهیلا و حەز دکر کو تو د گەل وان
یی نەرم بی، و هنده کی ل دو یف وان بە رده ی، دا ئە و ژ ی خو بو
تە نەرم کەن.

{وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} [النساء: 89]

رامان: دوروییان د قیا هوین ژ ی ب و ی راستیی کافر ببن یا
دلین هه وه باوهری پی ئینای، وەکی وان ب دلین خو کافر ی پی
کری، دا هوین و ئە و د کوفر ی دا وەکی یه ک لی بین.

{وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ} [البقرة: 109]

رامان: گه له کان ژ خودانین کیتابی دخواست کو پشتی باوهری
ئینانا هه وه هه وه ل کوفری فه گه رینن کا چاوا هه وه به ری بوت
دپه ری سین؛ ژ بهر وی کینا دلین وان تژی کری.

{وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ} [سورة آل عمران: 69]

رامان: دهسته که ک ژ جوھی و فه لان هیقی دکهن کو هه وه د سه ر
ئیسلامی دا ببه ن.

ب راستی ژی هه ر که سی هزرا خو بکه ت د زیان و مه ترسیین
به ری خودانا وان دیمه نین نه و به لاف دکهن دی بینیت گه له ک و
گه له کن ناهینه هژماری، زیانین بیرو باوهران و زیانین
کومه لایه تی و زیانین ره وشتی و زیانین هزری و دهرونی.

ژ زیانین بیر و باوهران: سست کرن و گومان ئیخستنا موسلمانا سەر دینی وان، دا موسلمان بژیت یی شاش و دودل و نه ئارام، و لاواز کرنا بنه مایی پشتنه قانی و به ریئ بوونی (الولاء والبراء) و قیان و نه قیانی دا موسلمان بژیت دویر ژ قیانا خودی و قیانا دینی وی و قیانا موسلمانا به رهف قیانا ریبه ریئ نه حه قیی و به رنیاس ب خرابیی (رموز الباطل) و بانگخووزین بی شه رمیی، دگهل قان خرابیی تیدا ب ئاشکه راییی ژی گازی دکهن بۆ چاقلیکرنا فه لآ و غهیری وان ژ بی باوهر د بیرو باوهراندا و که لتوری و جه ژن و گه له ک تشتین دی.

و ژ زیانین کومه لایه تی و رهوشتی یین قان که نالان: گازی کرن بۆ کرنا تاوانان ب ریکا نیشانانان دیمه نیین توندو تیژ و کوشتنی و به رزه کرنی و گرتنا مالی خه لکی، ههروه سا ب ریکا گازی کرنی بۆ پیکنینانا دهسته کیت ریگرا بۆ ته عداایی و تاوانان، و فییرکرنا دزی کرنی و فییل و به رزه کرنا تشتا ب شاره زایی و فییرکرنا ته زویری، و گازی کرن بۆ تیکه لیی و بی حشمه تی و

تہ قلیدا ژنان بو زہلامان و یا زہلامان بو ژنان، و گازی کرن بو
 پیکنینانا پھیوہندیین ژ دہرقہی پروسیسا ہہ قزینییی بو بہ لاق
 کرنا کارین کریت و بی بہا، و سہر قی چہندیرا ب بہریخودانا
 فان فلمین توندوتیژیی و خوینی و چہکی و تاوانان نہ فسا
 مروقان سروشتہ کی و ہردگریت یی توندو تیژ و زوردار، و ژبلی
 جیبہ جی نہ کرن چہندیین پہرستنییت فہرز و واجب و کیم خہمی
 کرن د گوہداری کرنا فہرمان و پہرستنییت خودی دا، و تایبہت
 ہہر پینج نقیژا کو نییکہ ژ ستونییت نیسلامی، و گہلہک زیان و
 مہترسیین دی کو زہحمہتہ ہہمی بہینہ کومکرن و بہینہ
 ہہ ژمارتن: { إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْلِلِ الْكَافِرِينَ أَهْمَهُمْ
 رُوَيْدًا } [سورة الطارق: 15]

رامان: ہندی تہون یین دہوی ب پیغہمبہری و ب قورئانی
 دکہن، فیلبازییی و بیلانگییرییی دکہن؛ دا ب فیلا خو حہ قییبی
 پویچ بکہن، وئہز فیلی دکہم دا حہ قییبی ب سہر بیخم، تہ گہر
 خو کافران بی نہ خووش بت ژی، قیجا تو -تہی موحہ ممہد-

لہزی د داخوازکرنہ عہ زابدانا وان دا نہ کہہ، بہ لی دہلیقی بدہ وان
وبہری خۆ بدی، ولہزی نہ کہہ، تو دی بینی چ عہ زاب وتیچوون
دی ب سہر وان دا ئیت.

ئہ قہ چہندہ کہ ژ وی یا ئہ و پی رادبن و پی کولہ گہشتنا وی
دکن، قیجا چ ل سہر مہ پی دقہ ئہم بکہین بہ رامبہر شی
ہہ می؟

ئہری ما یا ژ ہژی موسلمانییہ گوہدارییا پیلانین وان بکہت و
گہل خرابکاریا وان سویاری پیلی ببیت و گوہی خۆ بدہتہ
نہ حقیقا وان؟

ما یا ژ ہژی موسلمانییہ رازی ببیت بو خۆ و زاروکیت خۆ کو
پیش قان دیمہ نا روینیتہ خوار و گوہداری و بہری خودانا وان
تشتان بکہت بین ئہ و بہ لاف دکن؟

ئہری ما یا ژ ہژی موسلمانییہ کو یا کیم بو خۆ بدانیت و
رہزلی و شہرم و یا ب ئاریشہ بو مالا خۆ ہلبژیریت؟

خودایی مہزن ئەم بیین ہشیار کری ژ دویقکہ تنای بی باوہران، و
 بۆ مہ خرابی و مہزنیامہ ترسی و پیلانگی بیین وان بومہ بیین دیار
 کرین، و خودایی پاک و بی کیماسی بومہ ریکیین خو پاراستنی
 بیین دیار کرین، ہہ چیی وان ریکا بگریتہ بہر دی دہرباز بیت و
 یی سہر بریقہ بچیت دی یی راستہری بیت بۆ ریکا راست،
 ئەوژی زقرینا راست و ژ دلہ بۆ تایینی خودی و خو گرتن ب
 تمامیہ ب و ہریسی و یقہ و ریقہ چونہ کا پەیت و گورجہ سہر ریکا
 پیغہ مہبری خودییہ ﷺ، و ب بیہن فرہیی و خوگرتن سہر قی
 ہہمی ہتا دیدارا خودایی مہزن: **﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا
 يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾** [آل عمران: 120]

رامان: وئہ گہر ہوین بیہنا خو فرہ بکہن ل سہر وی نہ خوشییا
 دگہتہ ہہوہ، و تہقوا خودی د وی تشتی دا بکہن یی وی
 فہرمان پی ل ہہوہ کری، نہ خوشییا فیلبازییا وان زیانی
 ناگہ ہینتہ ہہوہ. و خودی دؤرا ل وی ہہمی کاری گرتی یی ئەو
 کافر دکہن.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين

مزگفت

www.mzgaft.com